

13.06.2022

Counsel for the appellant present.

He made a request for adjournment in order to prepare the brief. Adjourned. To come up for preliminary hearing on 15.08.2022 before S.B at Camp Court, Abbottabad.




(Rozina Rehman)
Member (J)
Camp Court, A/Abad

17.10.2022

Nemo for appellant.

Notice be issued to appellant/counsel for 14.11.2022 for preliminary hearing before S.B at Camp Court, Abbottabad.






(Rozina Rehman)
Member (J)

Form- A

FORM OF ORDER SHEET

Court of _____

Case No.- 7904/2021

S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge
1	2	3
1-	22/12/2021	<p>The appeal of Mr. Saeed-ur-Rehman presented today by Mr. Ubaid-ur-Rehman Advocate may be entered in the Institution Register and put up to the Worthy Chairman for proper order please.</p> <p style="text-align: right;"> REGISTRAR</p> <p>This case is entrusted to touring S. Bench at A.Abad for preliminary hearing to be put there on <u>14-03-2022</u></p> <p style="text-align: right;"> CHAIRMAN</p> <p>16.05.2022</p> <p>None for the appellant present.</p> <p>Notices for prosecution of appeal be issued to the appellant as well as his counsel.</p> <p>To come up for Preliminary hearing before S.B on 13.06.2022 at camp court Abbottabad.</p> <p style="text-align: right;"> (Kaleem Arshad Khan) Chairman Camp Court Abbottabad</p>

KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICES TRIBUNAL, PESHAWAR

CHECK LIST

Saeed ur Rehman
..... Appellant

Versus

Govt of Kpk.
..... Respondents

<u>S NO</u>	<u>CONTENTS</u>	<u>YES</u>	<u>NO</u>
1.	This petition has been presented by: <u>Advocate</u> <u>Court</u>	√	
2.	Whether Counsel/Appellant/Respondent/Deponent have signed the requisite documents?	√	
3.	Whether appeal is within time?	√	
4.	Whether the enactment under which the appeal is filed mentioned?	√	
5.	Whether the enactment under which the appeal is filed is correct?	√	
6.	Whether affidavit is appended?	√	
7.	Whether affidavit is duly attested by competent Oath Commissioner?	√	
8.	Whether appeal/annexures are properly paged?	√	
9.	Whether certificate regarding filing any earlier appeal on the subject, furnished?	√	
10.	Whether annexures are legible?	√	
11.	Whether annexures are attested?		
12.	Whether copies of annexures are readable/clear?	√	
13.	Whether copy of appeal is delivered to AG/DAG?	√	
14.	Whether Power of Attorney of the Counsel engaged is attested and signed by petitioner/appellant/respondents?	√	
15.	Whether numbers of referred cases given are correct?	√	
16.	Whether appeal contains cutting/overwriting?	x	
17.	Whether list of books has been provided at the end of the appeal?	√	
18.	Whether case relate to this court?	√	
19.	Whether requisite number of spare copies attached?	√	
20.	Whether complete spare copy is filed in separate file cover?	√	
21.	Whether addresses of parties given are complete?	√	
22.	Whether index filed?	√	
23.	Whether index is correct?	√	
24.	Whether Security and Process Fee deposited? On _____		
25.	Whether in view of Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal Rules 1974 Rule 11, notice along with copy of appeal and annexures has been sent to respondents? On _____	√	
26.	Whether copies of comments/reply/rejoinder submitted? On _____		
27.	Whether copies of comments/reply/rejoinder provided to opposite party? On _____		

It is certified that formalities/documentation as required in the above table have been fulfilled.

Name:- Tayyba Rami

Signature:- [Signature]

Dated:- 22-12-21

**BEFORE THE HONORABLE KHYBER PAKHTUNKHWA
SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR**

Service Appeal No. 7904 /2021

Saeed ur Rehman

V/S

Govt. of K.P.K etc

SERVICE APPEAL

I N D E X

S.No	Description of Documents	Annexure	Pages
1.	Service appeal alongwith affidavit, addresses of the parties		
2.	Copy of appointment letter	"A"	
3.	Copy of adjustment order No. 4083-86 dated 17.08.2021	"B"	
4.	Copy of promotion and transfer order No. 6461-70 dated 06.11.2021 of appellant	"C"	
5.	Copy of departmental appeal alongwith AD Card	"D"	
6.	Wakalat Nama	E	

Dated 22-12-2021

Appellant hm
Saeed ur Rehman

Through counsel

Ubaid ur Rehman Khan
Advocate High Court
At Haripur

Tayyaba Rani
Advocate High Court
At Haripur

BEFORE THE HONORABLE KHYBER PAKHTUNKHWA
SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR

Appeal No. _____/2021

Saeed-ur-Rehman s/o Abdul Hameed resident of Village Mankarai Tehsil and District Haripur presently serving as SDM at GHSS Sarai Saleh, Tehsil & District Haripur.

.....Appellant

VERSUS

1. Govt. of Khyber Pakhtunkhwa, through Secretary Elementary & Secondary Education Peshawar.
2. Secretary Elementary & Secondary Education, Peshawar.
3. Director Khyber Pakhtunkhwa Elementary & Secondary Education Peshawar.
4. Director Elementary & Secondary Education, Peshawar.
5. District Education Officer (Male) Haripur.
6. Muhammad Riaz SDM (BPS-16) GHS Halli Khanpur Haripur

....Respondents

**SERVICE APPEAL U/S 4 OF THE KPK SERVICE TRIBUNAL
ACT 1974 AGAINST THE ADJUSTMENT/TRANSFER OF
RESPONDENT NO.6 VIDE ORDER NO.4083-86 DATED
17.08.2021 OF RESPONDENT NO.6 FROM GHS HALLI TO
GHSS SARAI SALEH AND ADJUSTMENT/TRANSFER ORDER
OF APPELLANT VIDE NO. 6461-70 DATED 06.11.2021
FROM GHSS SARAI SALEH TO GHS SARAI NIAMAT KHAN
HARIPUR BE DECLARED ILLEGAL AND NULL & VOID.**

PRAYER :- *On acceptance of the appeal, the impugned transfer/Adjustment orders No.4083-86 dated 17.08.2021 of respondent No.6 and 6461-70 dated 06.11.2021 of appellant may graciously be cancelled and appellant be retained in present duty station at GHSS Sarai Saleh. Any other relief which this Honorable Court deem proper may also be granted in the best interest of justice.*

Respectfully Sheweth:-

Brief facts giving rise to the present appeal are arrayed as under:-

1. That the appellant is an employee of Elementary & Secondary Education Department, KPK. Copy of appointment letter is annexed as **Annexure "A"**.
2. That the appellant has worked in the education department as DM for the last **31 years** and the appellant submitted complete file alongwith required documents to respondent No.5 for promotion as SDM BPS-16.
3. That the respondent No.5 promoted the respondent No.6 vide promotion order No. 4083-86 dated 17.08.2021 and adjusted/transfer from GHS Hali to GHSS Sarai Saleh against the vacant post. Copy of adjustment order No. 4083-86 dated 17.08.2021 is annexed as **Annexure "B"**.
4. That respondent No.5 promoted the appellant as SDM BPS-16 and adjusted/transfer from GHSS Sarai Saleh to

GHS Sarai Niamat Khan vide promotion order No.6461-70 dated 06.11.2021. Copy of promotion and transfer order No. 6461-70 dated 06.11.2021 is annexed as **Annexure "C"**.

5. That the respondent No.5 after promotion instead of adjusted the appellant in the same School as SDM BPS-16, has illegally and unlawfully been transfer/adjusted GHS Sarai Niamat Khan whereas the respondent No.6 has illegally and unlawfully been transfer/adjusted in place of appellant which is against the law.
6. That the KPK Education Department banned transfer/posting throughout the province but the respondent No.5 has illegally and unlawfully been transfer/posted/adjusted the respondent No.6 during the bane period.
7. That the appellant filed department appeal before the Secretary KPK-Education, Peshawar but in vain. Copy of departmental appeal and AD card are annexed as **Annexure "D"**
8. That appellant aggrieved from the illegal transfer/posting / adjustment of respondent No.6 and appellant and knock the door of this Honourable Court for reversal of transfer order on the following grounds:-

GROUND OF APPEAL:-

- (a) That the transfer/adjustment orders during banned period issued by respondent No.5 are illegal, unlawful and against the law, hence untenable in the eye of law.

- (b) That the political influence, as is being exercised in the transfer/posting/adjustment of respondent No.6 and appellant in the case is neither warranted at law nor can be considered in the situation, where the rights of appellant is involved.
- (c) That the appellant has been subjected to political rivalry whereas the appellant having right to adjust in the same school against the vacant post of SDM (BPS-16), the respondent No.5 has illegally and unlawfully transfer/adjusted from GHSS Sarai Saleh to GHS Sarai Niamat Khan and the respondent NO.6 has illegally been transfer in the GHSS Sarai Saleh.
- (d) That the KPK Education Department banned over transfer/posting throughout the province but the respondent No.5 during bane period have illegally and unlawfully made transfer/posting/adjustment of respondent No.6 and appellant which is against the norms of justice and against the banned notification.
- (e) That the transfer orders issued by respondent No.5 of appellant and respondent No.6 are against the principle of natural justice and arbitrary, discriminatory violation of Article 25 of the constitution and calling for interfering by this Honorable Service Tribunal.

- (f) That the appellant seeks leave of this Honorable Service Tribunal to agitate additional Grounds at the time of Hearing of this Service Appeal.

In the light of above stated facts it is humbly prayed that on acceptance of the appeal, the impugned transfer/Adjustment orders No.4083-86 dated 17.08.2021 of respondent No.6 and 6461-70 dated 06.11.2021 of appellant may graciously be cancelled and appellant be retained in present duty station at GHSS Sarai Saleh. Any other relief which this Honorable Court deem proper may also be granted in the best interest of justice.

Dated 22-12-2021

Appellant hms
Saeed ur Rehman

Through counsel

Ubaid ur Rehman Khan
Advocate High Court
At Haripur

Tayyaba Rani
Advocate High Court
At Haripur

VERIFICATION

Verified on oath that the contents of forgoing Service Appeal are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therein from this Service Tribunal.

Dated 22-12-2021

Appellant

**BEFORE THE HONORABLE KHYBER PAKHTUNKHWA
SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR**

Service Appeal No. _____/2021

Saeed ur Rehman

V/S

Govt. of K.P.K etc

SERVICE APPEAL

AFFIDAVIT

I, Saeed-ur-Rehman s/o Abdul Hameed resident of Village Mankarai Tehsil and District Haripur presently serving as SDM at GHSS Sarai Saleh, Tehsil & District Haripur do hereby solemnly affirm and declare on oath that the contents of the foregoing service appeal are true and correct to the best of my knowledge and belief and that nothing has been concealed from this Honourable Court.

Dated: 22-12-2021

Deponent Amir
Saeed-ur-Rehman
CNIC # _____

**BEFORE THE HONORABLE KHYBER PAKHTUNKHWA
SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR**

Service Appeal No. _____/2021

Saeed ur Rehman

V/S

Govt. of K.P.K etc

SERVICE APPEAL

ADDRESSES OF THE PARTIES

APPELLANT

Saeed-ur-Rehman s/o Abdul Hameed resident of Village Mankarai Tehsil and District Haripur presently serving as SDM at GHSS Sarai Saleh, Tehsil & District Haripur.

RESPONDENTS

1. Govt. of Khyber Pakhtunkhwa, through Secretary Elementary & Secondary Education Peshawar.
2. Secretary Elementary & Secondary Education, Peshawar.
3. Director Khyber Pakhtunkhwa Elementary & Secondary Education Peshawar.
4. Director Elementary & Secondary Education, Peshawar.
5. District Education Officer (Male) Haripur.
6. Muhammad Riaz SDM (BPS-16) GHS Halli Khanpur Haripur

Dated 22-12-2021

Appellant 
Saeed ur Rehman

Through counsel

Ubaid ur Rehman Khan
Advocate High Court
At Haripur

Tayyaba Rani
Advocate High Court
At Haripur

Annex A

OFFICE OF THE DIVISIONAL DIRECTOR OF EDUCATION (SCHOOLS) HAZARA ABBOTTABAD

OFFICE ORDER NO. 63 /DM
DATED ABBOTTABAD THE 6/6 /90

APPOINTMENT

As ordered by the Honourable Chief Minister, N.W.F.P. Mr. Saad ul Rehman, S/o Abdul Nasir, FA VIII Nazim P.O. Manthara (Haripur) is hereby appointed as DM in BPS No. 9 & Rs. 330/- P.M (Fixed) plus usual allowances as admissible to him under the rules at Govt High School, Namil Maira (A. Abad) against vacant DM post with effect from the date of his taking over charge on the following terms conditions:-

CONDITIONS:-

1. No TA/DA & TG is allowed.
2. Charge report should be submitted to all concerned.
3. The appointment is purely on temporary basis and liable to termination at any time without any assigning notice or reason.
4. He should produce his age and health certificate from the medical Deptt. concerned.
5. In case he wishes to resign from service/post he will have to give one month prior notice or forfeited one month pay in lieu of short notice.
6. The Head of Institution is required to check all original Educational qualification certificate before handing over charge to him.
7. The appointment shall stand automatically cancelled if he fails to join the post within 15 days of issue of this order.
8. He should not be handed over charge if his age exceed 25 years or below 18 years.

(MUSAMMAD RAFIQ KHAN JADON)
DIVISIONAL DIRECTOR OF EDUCATION (SCHOOLS)
HAZARA DIVISION ABBOTTABAD

Order No. 22/18-59 /AB-VI/Appt:DM Dated A. Abad the 6/6 /90

Copy is forwarded to the:-

1. Private Secy to Honourable Chief Minister, N.W.F.P. alongwith photo copy of the application of concerned applicant.
2. District Education Officer
3. Director of Schools (Scho. & Schools) N.W.F.P. Peshawar.
4. District Education Officer (Males) A. Abad
5. Headmaster Govt High School, Namil Maira (A. Abad).
6. Candidate Concerned.
7. Office Order File.

Handwritten signature
Principal
Govt. Higher Secondary
School Namil Maira

Handwritten signature
FOR/DIVISIONAL DIRECTOR OF EDUCATION (SCHOOLS)
HAZARA DIVISION ABBOTTABAD
6/6/90



OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER (M)

HARIPUR

Ph. No. 0995-920150, 920151, 920152
Email: deomalehrp@yahoo.com

Handwritten notes:
In case needed
ANNEX-B
D.D.

Adjustment Order:

In pursuance of E- Transfer policy, issued by Govt: of Khyber Pakhtunkhwa Elementary & Secondary Education Department vide letter No. SO(SM)E&SED 7-1/2019/posting transfer policy of teaching cadre dated 11-09-2019, sub section (ii) on the recommendation of Inquiry officers Mr. Muhammad Riaz S.DM GHS Hali is hereby adjusted at GHSS Sarai Salah against vacant post on administrative ground in the best interest of public service with immediate effect.

Note:

1. Principal GHSS Sara Salah is required to keep vigilant eyes on the teacher and submit his performance report on monthly basis.
2. Charge Report Should be submitted to all concerned.
3. No TA/DA is allowed.

Endst: No. *4023-86* /F. No.22-32/ADEO/Estb:

-----Sd/-----
District Education Officer (Male)
Haripur
Dated: 17... /08/2021.

Copy for information to:

1. The Senior District Account Officer Haripur
2. The DMO EMA Haripur.
3. The Principal GHSS Sarai Salah Haripur.
4. The Headmaster GHS Halli School.
5. Office Record File.

Handwritten signature
District Education officer (Male)
Haripur

OFFICE OF THE PRINCIPAL GHSS SARAI SALEH HARIPUR

NO. 635


Dated. 07/08/2021


TO

The District Education Officer (M)
Haripur

DETAIL OF VACANT POST

S No	Post	Remarks
1	SS IT BPS -17	Vacant
2	SAT BPS-16	Vacant
3	SDM BPS-16	Vacant
4	CT IT BPS-12	Vacant


PRINCIPAL
GHSS SARAI SALEH
Govt. Higher Secondary School Sarai Saleh



Annex-C
OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER (M)

HARIPUR

Ph. No. 0995-920150, 920151, 920152
Email: deomalehrp@yahoo.com



Adjustment Order

In pursuance of the Notification issued by the Director Elementary & Secondary Education Khyber Pakhtunkhwa Peshawar vide No.5226-32/File No.6/Promotion Senior Teachers (BPS-16) dated Peshawar the 29-10-2021, the services of the following CT, DM, PET, AT & TT (Male) are promoted to the Post of Sr. CT, Sr.DM, Sr. PET, Sr.AT & Sr. TT (PSB-16) are hereby further adjusted against the vacant Posts of SCT/SDM/SPET/SAT/STT B-16 (Rs. 18910-1520-64510) posts mentioned against their names with immediate effect in the interest of public service, subject to the terms & conditions are remained intact as mentioned in the Notification referred above.

Item No.1 Promotion of CT BPS-16 Male to SCT BPS 16 ON REGULAR BASIS

S. No.	S/List. No	Name of Teacher	Name of School	Place of New Posting	Remarks
01.	50	Muhammad Saeed	GMS Bagla	GHSS Barkote	Against Vacant Post
02.	53	Qazi Bahram	GHS Laban Bandi	GHS Laban Bandi	Against Vacant Post
03.	54	Jahangir Ahmed	GHS TT Ship	GCMHS T.T Ship	Against Vacant Post
04.	55	Muhammad Shoukat	GMS Kohala Paeen	GHSS Bareela	Against Vacant Post
05.	59	Liaqat Ayyaz	GHS Hattar	GHSS Bareela	Against Vacant Post
06.	62	Rizwan	GHSS No-1 Haripur	GCMHSS No.1 Haripur	Against Vacant Post
07.	63	Muhammad Saleem	GMS KTS Sec 3	GCMHS T.T Ship	Against Vacant Post
08.	64	Mustafa Kamal	GHS Chhoi	GHS Tufkian	Against Vacant Post
09.	65	Iftikhar Hussain Shah	GHS Hattar	GHS Hattar	Against Vacant Post
10.	71	Mubashar Hussain Shah	GMS No.4 Haripur	GHSS Bareela	Against Vacant Post
11.	74	Javed Iqbal	GHS Jabri	GHS Jabri	Against Vacant Post
12.	75	M.Abid Shah	GHS Ghazi	GHS Tufkian	Against Vacant Post
13.	76	Fazal E Mehbod	GHS Kangra Colony	GHS No.2 Haripur	Against Vacant Post
14.	77	Mehmood Khan	GMS Nelan Bhoto	GHS Chajjian	Against Vacant Post
15.	78	Jamil Ahmad	GMS Chechian	GHS Mang	Against Vacant Post
16.	79	Muhammad Hafeez	GHSS Beer Haripur	GHSS Beer	Against Vacant Post
17.	80	Fazal Rehman	GMS KiniKot	GHSS Kakotri	Against Vacant Post
18.	82	Haroon ur Rasheed	GHS Kangra	GHSS Panian	Against Vacant Post
19.	83	Muhammad Afzal	GHS Kangra Colony	GHS Central Jail Haripur	Against Vacant Post
20.	86	Muhammad Shireen	GMS Garhan Ghazi	GHSS Jab	Against Vacant Post
21.	88	Gulnar Zeb	GMS Ziarat Bela	GHS Bait Galli	Against Vacant Post

[Handwritten Signature]

22.	90.	Razawal Shah	GHS Pindori	GHSS Bareela	Against Vacant Post
23.	91	Nazir Hussain	GMS Basso Maira	GHS Kariplian	Against Vacant Post
24.	92	Ibrar Hussain Shah	GHS Sarri	GHSS Panian	Against Vacant Post
25.	93	Muhammad Shabbir	GHS Alooli	GHS M.D Maira	Against Vacant Post
26.	94	Qasim Shah	GMS Kharoch	GHS Kariplian	Against Vacant Post
27.	96	Saeed Ahmad	GHS Ghazi Hamlet	GHS Ghazi Hamlet	Against Vacant Post

Consequential adjustment and Adjustment on need base

S. No	Name & Designation	From	To	Remarks
01	Muhammad Tariq Sr CT	GHSS Panian	GHS Ghazi	Against Vacant Post
02	Nasir Mehmood Sr CT	GHS Laban Bandi	GHSS Sarai Salah	Against Vacant Post
03	Muhammad Banaris Sr CT	GHS Dingi	GHS No.2 Haripur	Vice S.No.04
04	Aziz ur Rehman Sr CT	GHS No.2 Haripur	GHS Sec#4 KTS	Against Vacant Post
05	Israr Shah CT	GHS Kangra Colony	GHS Pindori	Against Vacant Post

Item No.2 Promotion of DM BPS-16 Male to SDM BPS 16 ON Regular Basis

S. No.	S/List. No	Name of Teacher	Name of School	Place of New Posting	Remarks
01	31	Saeed Ur Rehman	GHSS Sarai Saleh	GHS S. N Khan	Against Vacant Post
02	87	Shahbaz Ahmed	GMS Kali Tarar	GHSS Kot Najibullah	Against Vacant Post
03	88	Nisar Ahmed	GHSS Jatti Pind	GHSS Kot Najibullah	Against Vacant Post
04	89	Ahmed Nawaz	GMS Sec:4 KTS	GCMHS T.T Ship	Against Vacant Post
05	90	Shams Ur Rehman	GHSS Pind Hshim Khan	GHSS Jatti Pind	Against Vacant Post
06	91	Nisar Ahmed	GHS Karwala	GHS Kaileg	Against Vacant Post
07	95	Ghulam Akbar	GHS Nara Amazai	GHS Galli Amazai	Against Vacant Post
08	96	Muhammad Sarfraz	GHS Kangra Colony	GHS Ladha	Against Vacant Post
09	97	Multan Zeb	GHS Kupri Amazai	GHS Bait Galli	Against Vacant Post

Consequential adjustment and Adjustment on need base

S. No	Name & Designation	From	To	Remarks
01.	Khan Nawaqat DM	GMS Khoi Maira	GHS Kangra Colony	Against Vacant Post
02.	Mazhar Shah DM	GHS Choi	GHSS Pind Hashim Khan	Against Vacant Post
03.	Abdul Rasheed DM	GMS Moonan	GHSS Sarai Salah	Against Vacant Post
04.	Sadaqat Shah DM	GHSS S. N Khan	GHS Sirya	Against Vacant Post
05.	Dilawar Mehmood DM	GMS Gandian	GMS Ghari Serian	Against Vacant Post

Item No.3 Promotion of PET BPS-15 Male to SPET BPS 16 ON Regular Basis

S. No.	S/List. No	Name of Teacher	Name of School	Place of New Posting	Remarks
01.	61	Muhammad Shafique	GMS Hal Judal	GHS Kothera	Against Vacant Post

Item No.4 Promotion of AT BPS-16 Male to SAT BPS 16 on regular basis

S. No.	S/List. No	Name of Teacher	Name of School	Place of New Posting	Remarks
01	21	Syed Mozan Ali Shah	GHSS S.N.Khan	GHS Noorpur	Against Vacant Post
02	22	Abbdul Shakoor	GHS Arngah	GHS Sarai Gadai	Against Vacant Post
03	23	Abdul Waheed	GMS Khoi Nara	GCMHS T.T Ship	Against Vacant Post
04	24	Muhammad Tanveer	GMS Goraki	GHS Sec 4 K.T.Ship	Against Vacant Post
05	25	Muhammad Ehsan	GMS Bajeeda	GHS Sec: 3 K.T.Ship	Against Vacant Post
06	26	H.Masood Ur Rehman	GMS Garhi Serian	GHSS Srai Saleh	Against Vacant Post

Consequential adjustment and Adjustment on need base

S. No	Name & Designation	From	To	Remarks
01.	Shujhat Aslam AT	GMS S.D Pani	GHSS S. N Khan	Against Vacant Post

Item No.5 Promotion of TT BPS-16 Male to STT BPS 16 on regular basis

S. No.	S/List. No	Name of Teacher	Name of School	Place of New Posting	Remarks
01	41	Muhammad Khalid Shah	GMS Khairoch	GHSS Sirikot	Against Vacant Post
02	42	Aamir Shah	GMS Umar Khana	GHS Bait Gali	Against Vacant Post

Terms & Conditions: -

1. They would be on probation for a period of one year extendable for another year.
2. They will be governed by such rules and regulations as may be issued from time to time by the govt.
3. Their service can be terminated at any time, in case his performance is found unsatisfactory during probationary period. In case of misconduct, he shall be preceded under the rules framed from time to time.
4. Their inter-se-seniority on lower post will remain intact.
5. They will give an under taking to be recorded in their service book to the effect that if any over payment is made to him in the light this order will be recovered and if he is wrongly promoted, he will be reversed.
6. Charge report should be submitted to all concerned.
7. No TA/DA is allowed for joining their duty.

-----Sd/-----
District Education Officer (Male)
Haripur

Endst: No. __6461-70 __/5/11/G. B/Promotion/Sr. Cadre

Dated: 06 /11/2021

Copy of the above is submitted for information and necessary action to the: -

- 1- The Director E & SE Khyber Pakhtunkhwa Peshawar with reference to his No – quoted above.
- 2- The Senior District Accounts Officer. Haripur.
- 3- The Principal / Headmaster's concerned.
- 4- Teachers concerned.
- 5- Office Record File.


District Education Officer (M)
* Haripur

خدمت خباب سکریٹری تعلیم صوبہ خیبر پختونخواہ پشاور

اپیل

جناب عالی - میں سعید الرحمان ڈرائنگ ماسٹر تعلیم میں
 عرصہ 31 سال سے زائد اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں اور میں گورنمنٹ
 چائرس سکریٹری سکول سرائے صالحہ میں تعینات تھا اور گریڈ 1 تا پیرام
 رہا تھا مذکورہ سکول سے عارف خان سینئر ڈرائنگ ماسٹر تقریباً 10
 مہینے پہلے ریٹائر ہو چکے ہیں حکم نے پروموشن کیلئے خالی وغیرہ
 مانگی تھی جو کہ ان ٹائم میں نے جمع کرادی تھی۔ صوبائی حکومت نے
 ڈرائنگ پیری پائینڈ لگائی یہی حکم جو کہ ابھی تک برقرار ہے۔
 کافی عرصہ سے ڈرائنگ ماسٹر کی سیٹ خالی رہی لیکن بعد میں ڈرائنگ
 ایجوکیشن انسپریٹری نے صدر ایجن ڈرائنگ ماسٹر کو گورنمنٹ چائرس
 سکول عالی تحصیل خانپور سے ڈرائنگ کر کے اس سیٹ کو غیر قانونی آرڈر
 کر کے پُر کر دیا جو کہ ریٹائر ایجوکیشن کی خلاف ورزی ہے کیوں کہ گورنمنٹ
 چائرس سکریٹری سکول سرائے صالحہ میں تعینات ڈرائنگ ماسٹر
 ہو کر 16 B.P.S میں تعینات ہو سکتا تھا میں نے اس سلسلے ڈسٹرکٹ
 ایجوکیشن انسپریٹری خانپور کو موافق 30 8/2 اور 31 8/2 دو درخواستیں
 بھی بھیجی ہیں مگر کوئی شواہد نہ دھری اور اب میرا پروموشن آرڈر
 گورنمنٹ چائرس سکریٹری سکول سرائے صالحہ سے گورنمنٹ چائرس سکریٹری
 سکول سرائے نعمت خان ہو چکا ہے۔

استاذانہ محترمہ محمد ریاض B.P.S کا غیر قانونی آرڈر مسترد کر کے اس
 کو گورنمنٹ چائرس سکریٹری سکول سرائے صالحہ پر واپس دینا
 کہا جائے۔ قتل حکم لکھیے۔ امید ہے آپ میری اپیل پر توجہ دینا
 فرماتے ہوئے مجھے سرور سے چائرس سکریٹری سکول سرائے صالحہ میں
 تعینات فرمائیں گے۔ اپیل کا سافڈ دیگر تاغذات لکھیے۔
 المصفا 2021-22-11-5

سعید الرحمان B.P.S ڈرائنگ ماسٹر خدمت خباب پشاور

Annex D
از دفتر محمد شعیب زمان ایڈووکیٹ ہائی کورٹ

ڈسٹرکٹ کورٹس ہری پور موبائل نمبر 0300 5318121

تاریخ 30-8-2021

حوالہ نمبر MSZ/71/HC/21

نوٹس قانونی (رجسٹرڈ)

بنام

ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (مردانہ) سیکنڈری سکول ہری پور

ہر گاہ بذریعہ نوٹس ہذا آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ مسمی سعید الرحمن (DM(BPS-15)) نے مجھے اپنا وکیل مقرر کر کے ہدایت کی ہے کہ آپ کو مندرجہ ذیل نوٹس ارسال کروں۔


۱۔ یہ کہ میرا موکلم ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں بطور DM عرصہ تقریباً 31 سال سے اپنی ڈیوٹی سرانجام دے رہا ہے اور اب گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول سرائے صالح میں اپنی ڈیوٹی احسن طریقہ سے سرانجام دے رہا ہے۔


۲۔ یہ کہ صوبائی حکومت نے DM سکیل 15 سے سکیل 16 کیلئے SDM پر موشن کیلئے فائل وغیرہ مانگی جو کہ جمع کرادی گئی ہے اور گورنمنٹ نے ٹرانسفر پر پابند لگا رکھی ہے۔ ہائر سیکنڈری سکول سرائے صالح میں DM(BPS-15) میں کام کر رہا ہے۔ مذکورہ سکول سے چند ماہ عارف خان SDM گریڈ سولہ (16) سے ریٹائرڈ ہو گئے ہیں ان کی جگہ قانون کے مطابق میرا آرڈر ہی ہو سکتا ہے جبکہ آپ نے محمد ریاض SDM کا آرڈر چند دن پہلے کر کے میرے موکلم کا حق ختم کر دیا ہے۔

۳۔ یہ کہ آپ کو بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ محمد ریاض SDM(BPS-16) کا آرڈر فوری طور پر کینسل/منسوخ فرما کر موکلم کا پرموشن آرڈر GHSS سرائے صالح ہری پور میں کیا جائے بصورت دیگر موکلم عدالت مجاز سے رجوع کرے گا جس کے تمام اخراجات عدالتی وغیرہ دہر جانہ بھی آپ سے وصول کئے جائیں گے۔

نوٹ: نوٹس ہذا سنبھال کر رکھیں بوقت طلبی عدالت مجاز میں آپ پیش کرنے کے آپ پابند ہوں گے۔ نقل نوٹس ہذا مزید کارروائی کی خاطر میرے پاس ریکارڈ میں محفوظ ہے۔

آپ کا خیر اندیش


محمد شعیب زمان ایڈووکیٹ ہائی کورٹ
ڈسٹرکٹ کورٹس ہری پور


دستخط (نوٹس دہندہ)

اپیل

جناب عالی!

گزارش ہے کہ سائل محکمہ تعلیم ضلع ہری پور میں عرصہ زائد از 31 سال سے بطور ڈرائنگ ماسٹر اپنے فرائض منصبی سرانجام دے رہا ہوں اور سائل BPS-15 میں بطور DM گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول سرائے صالح میں تعینات ہوں۔

صوبائی حکومت صوبہ خیبر پختونخواہ نے BPS-15 سے BPS-16 کی پوسٹ کیلئے فائل اور سروس بک وغیرہ پر دوشن کیلئے مانگی ہے جو کہ سائل نے مورخہ 09.08.2021 کو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہری پور کے دفتر میں جمع کرادی ہے۔ صوبائی حکومت نے ٹرانسفر پر مکمل پابندی بھی گزشتہ کئی ماہ سے لگائی ہوئی ہے تاکہ خالی پوسٹوں پر کوئی بھی تعیناتی نہ ہو سکے۔ رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق جس سکول میں گریڈ 15 کا جو بھی ٹیچر ہوتا ہے وہی پرموٹ ہو کر BPS-16 پر تعینات ہو سکتا ہے۔ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول سرائے صالح میں عارف خان SDM چند ماہ قبل ریٹائرڈ ہوئے ہیں۔ مذکورہ سکول میں اب میں ہی پرموٹ ہو کر اس خالی سیٹ پر تعینات ہو سکتا ہوں۔ لیکن ضلع ہری پور کے MPA نے محمد ریاض سینئر DM جو کہ سابقہ دور کے وزیر اور ن لیگ کے قاضی اسد کا حمایتی تھا سے راضی نامہ کر کے سینئر DM کی سیٹ کو پر کرتے ہوئے محمد ریاض SDM کو GHS ہلی سے ٹرانسفر کر کے ہائر سیکنڈری سکول سرائے صالح میں خالی پوسٹ پر تعینات کر دیا ہے جبکہ ٹرانسفر پر پابندی برقرار ہے۔ اس طرح میرے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے۔ قانون کی رو سے اس پوسٹ کیلئے پرموشن ہو کر میرا آرڈر ہونا چاہیے تھا۔

لہذا سائل پر زور اپیل کرتا ہوں کہ محمد ریاض SDM کا آرڈر کینسل فرما کر حق و سچ کا بول بالا کریں۔
آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ آرڈر کی کاپی لف ہے

العارض

سعید الرحمن (BPS-15) DM گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول سرائے صالح ہری پور

رابطہ نمبر 03355521557

Annex - D

مخدومت جناب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر مردانہ سیکنڈری سکول نزد

درخواست نمبر از منسوقی آرڈر نمبر 4083-86

جناب عالی : درخواست ذیل عرض سے

یہ کہ من مسائل گزشتہ 31 سال سے فکیر تعلیم میں بطور D.M

سروس سرانجام دے رہا ہے۔

یہ کہ صوبائی حکومت نے ڈی ایم سکول پندرہ (15) سے S.D.M

سکول کا کے لئے بیرونی فوٹیشن کے لئے فاعل وغیرہ فائل جو کہ مسائل

نے جمع کرادی ہے۔ گورنمنٹ K.P.K نے ٹرانسفر پر پابندی لگا

رکھی ہے جبکہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول سرانجام میں

عارف خان S.D.M کی ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی طور پر میرا

آرڈر بیرونی فوٹیشن ہو کر ہونا تھا جو کہ جناب نے محمد ریاض S.D.M

کو G.H.S ہلی (HALI) تحصیل خانیور سے ٹرانسفر کر کے گورنمنٹ ہائر

سیکنڈری سکول سرانجام میں تعینات کر دیا ہے جو کہ غیر قانونی ہے۔

لہذا استدعا ہے کہ محمد ریاض S.D.M کا آرڈر کنسل کر کے G.H.S

سرانجام یوسٹ کو خالی چھوڑا جائے تاکہ میرٹ پر بیرونی فوٹیشن ہو کر

میرا آرڈر ہو سکے۔ آرڈر کی کاپی درخواست کے ساتھ لے لی ہے۔

محمد حسن

D.M محمد حسن

گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول سرانجام، ہلی پور 31-8-86

31-8-86

DBA No: 299
 BC No:
 Name of Advocate: عبدالرحمن خان

وکالت نامہ



S.No: 23705



بعدالت: جناب مسرور شریونیل پشاور ایسٹ آباد
 عنوان: منجیب الرحمن نام: K. PK Govt
 منجانب: ایسٹ پشاور نوعیت مقدمہ: ۳ دس اپیل
 باعث تحریر آنکہ: سب دی دفعہ

مقدمہ مندرجہ بالا عنوان میں اپنی طرف سے واسطے پیروی و جوابدہی برائے پیشی یا تصدیقہ مقدمہ بمقام ایسٹ آباد کے لیے
 عبدالرحمن خان، طبعہ والی

کو حسب ذیل شرائط پر وکیل مقرر کیا ہے کہ میں ہر پیشی پر خود یا بذریعہ مختار خاص رو برو عدالت حاضر ہوتا رہوں گا اور بروقت
 پکارے جانے مقدمہ وکیل صاحب موصوف کو اطلاع دے کر حاضر عدالت کروں گا۔ اگر پیشی پر منظر حاضر نہ ہو اور مقدمہ میری
 غیر حاضری کی وجہ سے کسی طور پر میرے خلاف ہو گیا تو صاحب موصوف اس کے کسی طور پر ذمہ دار نہ ہوں گے نیز وکیل صاحب
 موصوف صدر مقام پشاور کے علاوہ کسی جگہ یا پشاور کے اوقات سے پہلے یا پیچھے یا بروز تعطیل پیروی کرنے کے ذمہ دار نہ
 ہوں گے اور مقدمہ پشاور کے علاوہ کسی اور جگہ ساعت ہونے پر یا بروز تعطیل یا پشاور کے اوقات کے آگے پیچھے پیش ہونے
 پر منظر کو کوئی نقصان پہنچے تو اس کے ذمہ دار یا اس کے واسطے کسی معاوضہ کے ادا کرنے یا جھٹانہ کے واپس کرنے کے بھی صاحب
 موصوف ذمہ دار نہ ہوں گے۔ مجھ کو کل شناختہ پر داخلہ صاحب موصوف مثل کردہ ذات منظور و مقبول ہوگا اور صاحب موصوف کو
 عرض دعویٰ یا جواب دعویٰ اور درخواست اجراءے ڈگری و نظر ثانی اپیل نگرانی و ہر قسم درخواست پر دستخط و تصدیق کرنے کا بھی
 اختیار ہوگا اور اور کسی حکم یا ڈگری کرانے اور ہر قسم کاروبار وصول کرانے اور رسید دینے اور داخل کرنے اور ہر قسم کے بیان دینے اور
 اس کے ثالثی و راضی نامہ و فیصلہ بر حلف کرنے اقبال دعویٰ دینے کا بھی اختیار ہوگا اور بصورت جانے بیرونجات از پشاور صدر
 اپیل و برآمدگی مقدمہ یا منسوخی ڈگری یا طرفہ درخواست حکم استثنائی یا ترقی یا گرفتاری قبل از گرفتاری و اجراءے ڈگری بھی صاحب
 موصوف کو بشرط ادا ایسٹ ایسٹ عدالت پشاور کا اختیار ہوگا۔ اور بصورت ضرورت صاحب موصوف کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ مقدمہ
 مذکور یا اس کے کسی جزوی کاروائی کے یا بصورت اپیل کسی دوسرے وکیل کو اپنے بجائے اپنے ہمراہ مقرر کریں اور ایسے وکیل کو
 بھی ہر امر میں وہی اور ویسے اختیارات حاصل ہوں گے جیسے صاحب موصوف کو حاصل ہیں اور ہر قسم کے اخراجات و سروس چارج
 التوا پڑے گا وہ صاحب موصوف کا حق ہوگا۔ اگر وکیل صاحب موصوف کو پوری فیس تاریخ پیشی سے پہلے ادا نہ کروں گا تو صاحب
 موصوف کو پورا اختیار ہوگا کہ وہ مقدمہ کی پیروی نہ کریں اور ایسی صورت میں میرا کوئی مطالبہ کسی قسم کا صاحب موصوف کے
 برخلاف نہیں ہوگا۔

لہذا وکالت نامہ لکھ دیا ہے کہ سندر ہے۔

مضمون وکالت نامہ سن لیا ہے اور اچھی طرح سمجھ لیا ہے اور منظور ہے۔ مورخہ: 22 / 12 / 2021
 دن ماہ سال

عبدالرحمن خان
